



## اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا انبیاء ورسلا اور اولیاء کی حفاظت کا بیان

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غار میں تھے، میں نے مشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا، وہ ہمارے سروں پر تھے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول! ان میں سے کوئی اگر اپنا پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے آپ نے فرمایا: ابو بکر! ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے  
[صحیح] [متفق علیہ]

یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو بلایا اور لوگوں نے آپ کی اتباع کی مشرکین ڈر گئے اور آپ کی دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ پر سختی کی اور قول و فعل کے ذریعے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی آپ کے ساتھ صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ، رابعی اور خادم تھے پس آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو لیے، جب مشرکین نے آپ کی مکہ سے روانگی کی خبر سنی تو آپ کو پکڑ کر لانے والے کو دو سو (200) اونٹ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لانے پر سو (100) اونٹ انعام رکھا، لوگ آپ دونوں کو پھاڑوں، وادیوں اور غاروں اور ہر جگہ تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ اس غار پر آؤ کہ جس میں نبی اور ابوبکر پناہ گزین تھے یہ غار ثور ہے جہاں تین دنوں تک چھپے رہے یہاں تک کہ آپ دونوں کی تلاش کا معاملہ نرم پڑ گیا، چنانچہ اسی موقع سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول! ان میں سے کوئی اگر اپنا پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہم انہیں نظر آ جائیں اس لیے کہ ہم ان کے قدموں کے نیچے غار میں ہی ہیں، آپ نے فرمایا: ابو بکر! ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے قرآن مجید میں ہے کہ آپ نے فرمایا: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (سورۃ التوبہ: 40) ترجمہ: غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ممکن ہے کہ آپ نے یہ دونوں جملے بھی کہے ہوں یعنی ”مَا ظَنُّكَ يَا تُبَيِّنِ اللَّهُ تَالُثَهُمَا“ اور ”لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ آپ کا یہ کہنا: ”ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے“ یعنی کیا کوئی ان دونوں کو اذیت وغیرہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور جواب ہے: نہیں کوئی یہ طاقت نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے کہ جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اس کو کوئی رسوا نہیں کرسکتا جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، (فرمان الہی ہے) قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آل عمران: 26) ترجمہ: ”آپ کو دیکھیں اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، یہ شک تو ہر چیز پر قادر ہے“



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

